

## سٹی آف برامپٹن نے مقامی غیر منافع بخش اور خیراتی تنظیموں کی مدد کے لیے تقریباً \$600,000 کی خطیر رقم رکھی ہے

برامپٹن، آن (6 مئی 2022) – سٹی آف برامپٹن نے 2022 میں ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے 64 مقامی غیر منافع بخش تنظیموں اور رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی مدد کے لیے تقریباً \$600,000 کی رقم رکھی ہے، جن کی گرانٹس کی رقم 5,000\$ سے 25,000\$ تک ہیں۔

یہ فنڈنگ ان اہم پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد فراہم کے لیے بہت ضروری ہے جن پر ہماری کمیونٹی انحصار کرتی ہے کیونکہ برامپٹن میں ہم کووڈ-19 کی وباء سے بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے اعانت کی جانے والی تنظیموں میں آسیز فاؤنڈیشن، لیڈی بالرز کیمپ، ون وائس ون ٹیم بوتھ لیڈرشپ آرگنائزیشن، پنجابی کمیونٹی ہیلتھ سروسز، بگ برادرز، بگ سسٹرز آف پیل، بیوکس آرٹس برامپٹن اور کچھ مزید تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ 2022 ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے وصول کنندگان کی مکمل فہرست [brampton.ca/abf](http://brampton.ca/abf) پر دیکھی جا سکتی ہے۔

کووڈ-19 کی وباء کے دوران برامپٹن کے بزرگ افراد خاص طور پر تنہائی اور دستیاب وسائل کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ [انڈس کمیونٹی سروسز](http://brampton.ca/abf) کے مطابق "ایڈوانسڈ برامپٹن فنڈ ہمیں اپنے بزرگوں کو ان کی ثقافتوں کی نمائش کرنے اور انہیں فنون، گفتگو، ورزش، تعلیم اور صحت مندانہ کھانے فراہم کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ ہمیں یہ پروگرامنگ اپنے کلائنٹس کو ذاتی طور پر اور ورچوئل طور پر پیش کرنے پر خوشی ہے۔"

برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے اور [آسیز فاؤنڈیشن](http://brampton.ca/abf) فعال رہنے کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کے مطابق "ایڈوانس برامپٹن فنڈ ہمیں اپنے نوجوانوں اور ہماری کمیونٹی کے دیگر افراد کے لیے اپنے گیٹ ایکٹو انیشیٹیو (Get Active Initiative) کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ شراکتیں نوجوانوں کو جسمانی تندرستی اور صحت مندانہ طرز زندگی کے بارے میں علم اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں مدد دینے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔"

[لیڈی بالرز کیمپ](http://brampton.ca/abf) کے مطابق، یہ فنڈنگ کمیونٹی کو ایک قابل قدر پروگرام فراہم کرنے کی ان کی صلاحیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2021 میں گرانٹ وصول کنندگان کے طور پر، وہ اپنے سمر کیمپ 2.0 - رائٹ ٹو لرن رائٹ ٹو پلے کو کامیابی سے منعقد کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ "ہمارا پروگرام برامپٹن میں 246 بچوں اور نوجوانوں تک پہنچ کر ہماری توقعات سے آگے بڑھ گیا ہے اور بہت ساری نوجوان زندگیوں میں خوشیاں لایا ہے۔ 2021 کے موسم خزاں میں، ہم نے ذہنی تندرستی کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ تعلیمی ٹیوشن اور بوم ورک میں مدد فراہم کی، جو کہ اس غیر معمولی مشکل وقت میں نہایت اہم تھا۔" 2022 پروگرام کی فنڈنگ سے لیڈی بالرز کیمپ کو 8 ہفتوں پر مشتمل سمر کیمپ اور 14 ہفتے کے بیک ٹو سکول پروگرامنگ فراہم کرنے میں مدد ملے گی، جس سے سیاہ فام خواتین کے بچوں اور غربت کے خطرے سے دو چار نوجوانوں کو جسمانی ورزش، جذباتی تندرستی، سماجی معاونت اور اہم تعلیمی مدد کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

مقامی غیر منافع بخش اور خیراتی اداروں کی مزید مدد کرنے کے لیے، ایڈوانس برامپٹن فنڈ نے ٹورنٹو میٹروپولیٹن یونیورسٹی (سابقہ ریڈرس یونیورسٹی) کے [جی ریمنڈ جینگ سکول آف کانٹینیونگ ایجوکیشن](http://brampton.ca/abf) کے ساتھ شراکت داری کی تاکہ غیر منافع بخش سیکٹر ڈویلپمنٹ ورکشاپس کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے، جو تنظیموں کو ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، تعلیم اور مہارتوں کے فروغ اور اس شعبے کی تعمیر میں مدد فراہم کرے گی۔ نومبر 2021 سے، 250 سے زیادہ شرکاء کی میزبانی کرتے ہوئے، 11 نشستیں منعقد کی گئیں۔ اگلی سیریز موسم خزاں میں شروع ہو گی۔

ایڈوانسڈ برامپٹن فنڈ کے بارے میں

ایڈوانس برامپٹن فنڈ \$600,000 کی کمیونٹی گرانٹ کے ساتھ ایک پروگرام ہے جو برامپٹن میں کام کرنے والے غیر منافع

بخش یا خیراتی اداروں کو ایسے پروگرام اور خدمات فراہم کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے جو کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور کونسل کی مدت کی ترجیحات کو آگے بڑھاتے ہیں۔

اس میں فنڈنگ کے تین دھارے شامل ہوں گے:

- **ابھرتی ہوئی تنظیمیں** - انہیں نئے اور پُر جتد پروجیکٹس کے لیے \$5,000 تک مہیا کیے جائیں گے۔
- **ترقی پذیر تنظیمیں** - انہیں ایسے پروگراموں کے لیے \$12,500 تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو برامپٹن میں کم از کم ایک مرتبہ چل چکے ہیں۔
- **وسعت پذیر تنظیمیں** - انہیں ایسے پروگراموں کے لیے \$25,000 تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو برامپٹن میں کم از کم دو مرتبہ چل چکے ہیں۔

گرانٹ کی درخواستوں کا اگلا دور 2022 کے موسم خزاں میں کھلے گا تاکہ 2023 میں کیے جانے والے پروجیکٹس میں مدد دی جا سکے۔ 2022 ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے وصول کنندگان کی مکمل فہرست کے لیے اور پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے [brampton.ca/abf](http://brampton.ca/abf) ملاحظہ کریں۔

#### اقتباسات

"برامپٹن ایک مواقع کا شہر ہے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ ایڈوانس برامپٹن فنڈ کا ہماری مقامی غیر منافع بخش تنظیموں پر کتنا اچھا اثر پڑا ہے۔ ان کے پیش کردہ وسائل ہماری کمیونٹی کو بہت ضروری مدد فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم کووڈ-19 وبائی بیماری سے بحالی کی جانب گامزن ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ایڈوانس برامپٹن فنڈ محض فنڈنگ کے علاوہ بھی کچھ فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد برامپٹن میں کام کرنے والے ہمارے غیر منافع بخش اداروں کو ہمارے شہر کو درکار پروگراموں اور خدمات فراہم کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس فنڈنگ کی مدد سے جو اہم وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، ان کا کمیونٹی اور ان تنظیموں پر کتنا زبردست اثر پڑ رہا ہے۔"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کو ہمارے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے برامپٹن میں کام کرنے والے غیر منافع بخش اور خیراتی اداروں کے لیے فنڈنگ کا موقع فراہم کر کے اپنی متنوع آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے پر فخر ہے۔ ہم ان گروپس کے کاموں کی وجہ سے اپنے معاشرے پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔"

- پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا



## Media Release

کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)